

JUZ 9 – PART 1



SURAH AL-A'RAF AYAH 88-162
ROOT WORDS

Translation	ROOT	Word	AYAH
البتہ تم ضرور پلٹو گے	ع و د	لَتَعُوذَنَّ	88
ناپسند کرنے والے	ک ر ہ	كَارِهِيْنَ	
پلٹیں ہم	ع و د	عُدْنَا	89
زلزلے نے	ر ج ف	الرَّجْفَةَ	91
اوندھے منہ	ج ث م	جَاثِمِيْنَ	
وہ بسے تھے	غ ن ی	يَغْنَوَا	92
ساتھ سختی	ب ا س	بِالْبَأْسَاءِ	94
وہ گڑگڑائیں / عاجزی کریں	ض ر ع	يَضْرَعُونَ	
سورہے ہوں	ن و م	نَائِمُونَ	97
پکڑ لیں ہم انہیں	ص و ب	أَصْبَنَاهُمْ	100
ہم مہر لگا دیں	ط ب ع	نَطَبُعُ	
قائم ہوں	ح ق ق	حَقِيقٌ	105
عصا اپنا	ع ص و	عَصَاهُ	107
اڑدھا	ث ع ب	تُعْبَانُ	
تو اس نے ڈالا	ل ق ی	فَالْقَىٰ	
سفید چمکتا ہوا	ب ی ض	بَيضَاءُ	108
البتہ جادو گر ہے	س ح ر	لَسَاحِرٌ	109
انتظار میں رکھو اسے	ر ج و	أَرْجِهْ	111

اکٹھا کرنے والے	ح ش ر	حَاشِرِينَ	
وہ لے آئیں گے تیرے پاس	ا ت ی	يَأْتُونَكَ	112
انہوں نے خوفزدہ کر دیا انہیں	ر ہ ب	اسْتَرْهَبُوهُمْ	116
وہ نگل رہی تھی	ل ق ف	تَلَقَّفُ	117
ذلیل ہو کر	ص غ ر	صَاغِرِينَ	119
البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں	ص ل ب	لَأَصْلَبَنَّكُمْ	124
تم ناراض ہوتے	ن ق م	تَنْقِمُ	126
انڈیل دے	ف ر غ	أَفْرِغْ	
اور چھوڑ دیں تجھے	و ذ ر	وَيَذْرَکْ	127
زبردست ہیں	ق ہ ر	قَاهِرُونَ	
مدد مانگو تم	ع و ن	اسْتَعِينُوا	128
اذیت دیتے گئے ہم	ا ذ ی	أُذِينَا	129
ساتھ قحط سالیوں کے	س ن و	بِالسَّنِينِ	130
وہ بدشگوننی لیتے	ط ی ر	يَطِيرُوا	131
اور ٹڈیاں	ج ر د	وَالْجَرَادَ	133
اور جوئیں	ق م ل	وَالْقَمَلَ	
اور مینڈک	ض ف د ع	وَالضَّفَادِعَ	
اور خون	د م و	وَالدَّمَ	
الگ الگ	ف ص ل	مُفَصَّلَاتٍ	
وہ عہد توڑ ڈالتے	ن ک ث	يَنْكُثُونَ	135
پس انتقام لیا ہم نے	ن ق م	فَأَنْتَقَمْنَا	136
سمندر	ی م م	الْيَمِّ	

وہ کمزور سمجھے جاتے	ض ع ف	يُسْتَضْعَفُونَ	137
بتوں	ص ن م	أَصْنَام	138
برباد ہونے والا ہے	ت ب ر	مُتَبَّرٌ	139
آزمائش تھی	ب ل و	بَلَاءٌ	141
تم دیکھ سکو گے مجھے	ر ا ی	تَرَانِي	143
وہ قائم رہے	ق ر ر	اسْتَقَرَّ	
تجلی کی	ج ل و	تَجَلَّى	
ریزہ ریزہ	د ک ک	دَكَا	
اور گر پڑا	خ ر ر	وَخَرَّ	
بے ہوش ہو کر	ص ع ق	صَعِقَا	
ہوش میں آیا	أ ف ق / ف و ق	أَفَاقَ	
چن لیا میں نے تجھے	ص ف و	اصْطَفَيْتُكَ	144
نصیحت	و ع ظ	مَوْعِظَةٌ	145
عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں	ر ا ی	سَأَرِيكُمْ	
عنقریب میں پھیر دوں گا	ص ر ف	سَأَصْرِفُ	146
گراہی کا	غ ی ی	الْغِيَّ	
اپنے زیورات	ح ل ی	حُلِيِّهِمْ	148
اور انہوں نے دیکھا	ر ا ی	وَرَأَوْا	149
بہت غصے میں	غ ض ب	عَضْبَانَ	150
تو ہنسا	ش م ت	تُشْمِتُ	
ان کی تحریر میں	ن س خ	نُسَخَتْهَا	154

میں پہنچاتا ہوں	ص و ب	أَصِيبُ	156
پس ضرور میں لکھ دوں گا اسے	ک ت ب	فَسَاكُتُبُهَا	
ڈرتے ہیں	و ق ی	يَتَّقُونَ	
بوجھ ان کے	أ ص ر	إِصْرَهُمْ	157
اور وہ طوق	غ ل ل	وَالْأَعْلَالِ	
اور انہوں نے قوت دی اسے	ع ز ر	وَعَزَّرُوهُ	
قبیلوں میں	س ب ط	أَسْبَاطًا	160
پس پھوٹ نکلے	ب ج س	فَأَنْبَجَسَتْ	
تم ٹھہرو / رہو	س ک ن	اسْكُنُوا	161
حطہ / بخش دے	ح ط ط	حِطَّةَ	